


QUICK START CARD



7


Fn + **F7**
CRT/LCD

Toggle Output Settings

| | |
|------------|-------------|
| Acer | [Fn] + [F5] |
| Asus | [Fn] + [F8] |
| Dell | [Fn] + [F8] |
| Gateway | [Fn] + [F4] |
| HP/Compaq | [Fn] + [F4] |
| IBM/Lenovo | [Fn] + [F7] |
| NEC | [Fn] + [F3] |
| Toshiba | [Fn] + [F5] |

Mac Apple :

System Preferences ⇨ Display ⇨
Arrangement ⇨ Mirror display




P/N 36.8JA02G011-A

QUICK START CARD



8

Adjust Focus

Régler la mise au point

Stellen Sie den Fokus ein

Ajuste el enfoque

Regolare la messa a fuoco

Ajuste da focagem

Pas de scherpstelling aan

Wyreguluj Ostrość

Настройте Фокусировку

Projektorin tarkennuksen säätö

Justera fokus

تنظیم فوكوس

Juster fokus

Juster Fokus

Προσαρμογή Εστίασης

Élességállítás

Upravít zaostření

Odağı Ayarla

ປັບໂຟກັສ

調整對焦


調整焦距

[フォーカス]調整


초점 조절

Điều chỉnh Tiêu cự

ضبط البؤرة



9



www.optoma.com

Warning!



English

- ❑ Avoid staring directly into the projector beam at all times.
- ❑ Minimize standing facing into the beam. Keep your back to the beam as much as possible.

Français

- ❑ Evitez à tout moment de regarder directement vers le faisceau du projecteur.
- ❑ Minimisez le temps passé face au faisceau. Restez dos au faisceau autant que possible.

Deutsch

- ❑ Nicht direkt in den Projektor-Lichtstrahl schauen.
- ❑ Vermeiden Sie, mit dem Gesicht zum Projektor-Lichtstrahl zu stehen. Stehen Sie mit dem Rücken zum Projektor-Lichtstrahl.

Español

- ❑ No mire al haz del proyector en ningún momento.
- ❑ Permanezca el mínimo tiempo posible de cara al haz. Dé la espalda al haz siempre que sea posible.

Italiano

- ❑ Evitare sempre di guardare direttamente il raggio del proiet-tore.
- ❑ Evitare il più possibile di stare di fronte al raggio. Tenersi dietro al raggio per quanto possibile.

Português

- ❑ Evite olhar directamente para a luz do projector seja em que circunstância for.
- ❑ Evite ficar voltado de frente para a luz proveniente do projec-tor. Mantenha-se de costas para a luz do projector o máximo possível.

Nederlands

- ❑ Vermijd op elk ogenblik rechtstreeks in de straal van de projector te kijken.
- ❑ Ga zo weinig mogelijk in de straal staan. Houd zo veel mogelijk uw rug naar de straal gericht.

Dansk

- ❑ Se aldrig direkte ind i projektorstrålen.
- ❑ Undgå så vidt muligt at stå vendt mod strålen. Vend ryggen til strålen så vidt muligt.

Русский

- ❑ Никогда не смотрите прямо на луч проектора.
- ❑ Старайтесь не стоять лицом к лучу. Как можно чаще поворачивайтесь спиной к лучу.

Suomi

- ❑ Vältä katsomasta suoraan projektorin valonsäteeseen.
- ❑ Seiso mahdollisimman vähän kasvoit kohti sädetä. Pidä selkäsi sädetä kohti niin paljon kuin mahdollista.

Svenska

- ❑ Undvik alltid att titta direkt in i projektorstrålen.
- ❑ Stå så lite som möjligt vänd mot strålen. Håll din rygg mot strålen så mycket som möjligt.

Norsk

- ❑ Unngå å se direkte inn i projektorstrålen til enhver tid.
- ❑ Unngå situasjoner hvor du står imot strålen. Stå med ryggen mot strålen så ofte som mulig.

Polski

- ❑ Należy unikać bezpośredniego, stalego patrzenia na wiązkę światła projektora.
- ❑ Należy zminimalizować stawianie przodem do światła projektora. Należy najczęściej na ile to możliwe ustawić się tyłem do wiązki światła projektora.

Ελληνικά

- ❑ Αποφεύγετε να κοιτάτε απευθείας την ακτίνα του προβοέα.
- ❑ Ελαχιστοποιήστε τις στιγμές που κοιτάτε στην ακτίνα. Έχετε την πλάτη σας στην ακτίνα όσο το δυνατόν περισσότερο.

Magyar

- ❑ Soha ne tekintsen közvetlenül a sugárba.
- ❑ Minimálisan csökkentse a sugárral szemben töltött időt. Lehetőleg háttal álljon a sugárnak.

Čeština

- ❑ Nedívejte sedělší dobu přímo do proudu světla z projektoru.
- ❑ Odvracejte tvář co nejvíce od proudu světla. Odvracejte se co nejvíce zády do proudu světla.

Türkçe

- ❑ Projektör ışık kaynağı içerisine direkt olarak bakmayınız.
- ❑ Projektör ışık kaynağı yönünüze gelecek şekilde durmayınız. Işık kaynağına karşı otalibildiğince arkanız dönük konumlanınız.

ไทย

- ❑ หลีกเลี่ยงการมองที่ลำแสงโปรเจกเตอร์โดยตรงทุกกรณี
- ❑ หลีกเลี่ยงการยืนหันหน้าเข้าหาลำแสงโหนดยที่สุด ให้ใช้หลังหันเข้าหาลำแสงโหนดมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

繁體中文

- ❑ 請勿直視鏡頭內部。
- ❑ 請避免直接面對投影機光束並盡量可能背對直接照射。

简体中文

- ❑ 请勿直视镜头内部。
- ❑ 请避免直接面对投影机光束并尽可能背对直接照射。

日本語

- ❑ プロジェクタの光源に直接注視しないでください。
- ❑ プロジェクタの光源に向けて立たないでください。出来る限り、離れてください。

한국어

- ❑ 프로젝터 빛을 직접 응시하지 마아 주십시오.
- ❑ 빛을 향하여 서는 행동을 자제하여 주시고 가능한 빛을 등지고 사용하시기 바랍니다.

Việt

- ❑ Luôn tránh nhìn thẳng vào chùm sáng của máy chiếu.
- ❑ Giảm thiểu đứng quay mặt vào chùm sáng. Hãy để lưng của bạn quay về chùm sáng càng nhiều càng tốt.

عربي

- ❑ تجنب النظر مباشرة إلى أشعة جهاز الإسقاط لفترة طويلة.
- ❑ حاول التقليل من الوقوف مواجهاً للشعاع. وينصح بإعطاء الظهر للشعاع قدر المستطاع.

فارسی

- ❑ از خیره شدن به پروژکتور در مدت زمان طولانی خودداری کنید.
- ❑ مدت زمان ایستادن در مقابل پرتو را به حداقل برسانید. تا جای ممکن پشتتان را به پرتو ها کنید.